



”اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کو سامنہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کو سامنہ رمضان آئے اور نکل جائے اور وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور دونوں اسے جنت میں داخل نہ کر سکیں“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ”اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کو سامنہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کو سامنہ رمضان آئے اور نکل جائے اور وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور دونوں اسے جنت میں داخل نہ کر سکیں“
[صحیح] [رواه الترمذی وأحمد]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی ہے کہ وہ اتنے ذلیل ہوں اور خسار میں پڑیں کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے: پہلی قسم: ایسے لوگ جن کو سامنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ 'صلی اللہ علیہ وسلم' کہے کر یا اس طرح کے دوسرے صیغے استعمال کر کے آپ پر درود نہ بھیجیں دوسری قسم: ایسے لوگ جن کو سامنہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر بھی گیا، لیکن وہ نیکی کے کام کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے تیسری قسم: ایسا شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی نافرمانی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے ان کو دخول جنت کا سبب نہ بنا سکا

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/6014>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

